

26 March 2021

The General Manager
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road
Karachi.

Dear Sir,

PRESS NOTICE ANNOUNCING ANNUAL GENERAL MEETING

We are pleased to enclose herewith photocopies of newspaper clippings in respect of the Notice of the Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on 21 April 2021.

Yours sincerely,



Faisal Abid
Company Secretary

Encl (s): As above

cc: The Chairman,
Securities & Exchange Commission of Pakistan

The Daily Nawa-e-Waqt

Thursday, March 25, 2021

Nationwide

46x3



فوس برائے سلاٹ ایبلاس

مطلع کیا جاتا ہے کہ درج ذیل کاروباری امور کی حقیقت کے لیے Lotte کیمیکل پاکستان لینڈ کا تیسواں سالانہ اجلاس 21 مارچ 2021ء کو 11:00 بجے دوپہر تک کے درمیان منعقد ہونے کا اہم اور اہم ترین فیصلہ منظور کیا گیا۔

- 1- سالانہ اجلاس 31 مارچ 2020ء کے لیے کئی کے آگے شدہ فیصلے، اسپیشلسٹ معائنہ اور آڈیٹ کی رپورٹیں وصول کرنا، عدالت پر مقدمہ کرنا۔
- 2- ڈائریکٹرز کی تجویز پر 31 مارچ 2020ء کو اٹھ ہوئے سالانہ اجلاس 10 دسمبر 2020ء کو 7.5% شرح منجی 0.75 دسمبر 2021ء کو 2021ء تک کے کارڈز کی تفریق برقی کے معاملے کا فیصلہ کرنا۔
- 3- 31 مارچ 2021ء تک کے کارڈز کی تفریق برقی کے معاملے کا فیصلہ کرنا۔

بھرم براد
ایبلاس ماہ
کئی ٹیکسٹری

- 1- کئی کی تجویز پر 14 اپریل 2021ء سے 2021ء تک 21 مارچ 2021ء تک ہونے والے سالانہ اجلاس میں شرکت نہ کرنا۔ 13 اپریل 2021ء کو عدالت کی طرف سے اجلاس تک پہنچنے تک اجلاس میں شرکت نہ کرنا۔ 13 اپریل 2021ء کو عدالت کی طرف سے اجلاس تک پہنچنے تک اجلاس میں شرکت نہ کرنا۔ 13 اپریل 2021ء کو عدالت کی طرف سے اجلاس تک پہنچنے تک اجلاس میں شرکت نہ کرنا۔
- 2- سالانہ اجلاس میں شرکت نہ کرنا۔ 13 اپریل 2021ء کو عدالت کی طرف سے اجلاس تک پہنچنے تک اجلاس میں شرکت نہ کرنا۔ 13 اپریل 2021ء کو عدالت کی طرف سے اجلاس تک پہنچنے تک اجلاس میں شرکت نہ کرنا۔ 13 اپریل 2021ء کو عدالت کی طرف سے اجلاس تک پہنچنے تک اجلاس میں شرکت نہ کرنا۔

تیز ہولڈر نام	ای این آئی سی نمبر	فون نمبر/ای این آئی سی نمبر	موبائل نمبر	ای این آئی سی نمبر
---------------	--------------------	-----------------------------	-------------	--------------------

- 4- ہجرتوں پر نوٹس دینا، ہجرتوں کے خلاف تفریق کے بعد رجسٹرڈ کر دینے کے لیے، ایبلاس کئی کی جانب سے ای این آئی سی نمبر کے ذریعے ایک ایبلاس ٹیکٹ یا ایبلاس ٹیکٹ کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 5- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 6- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 7- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 8- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 9- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 10- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 11- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 12- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 13- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 14- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 15- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 16- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 17- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 18- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 19- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 20- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 21- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 22- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 23- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 24- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 25- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 26- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 27- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 28- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 29- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 30- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 31- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 32- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

- 33- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔
- 34- ایبلاس کئی کی سہولت کی درخواست 10:30 بجے سالانہ اجلاس میں شرکت تک دی جائے گی۔

Publication

The Daily Nation

Friday, March 26, 2021

Nationwide

42x3

LOTTE CHEMICAL PAKISTAN LTD
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 23rd Annual General Meeting (AGM) of Lotte Chemical Pakistan Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 21 April 2021 at 11:00 a.m. through video-link to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

- To receive, consider and adopt the Company's audited financial statements together with the Directors' and Auditors' reports for the year ended 31 December 2020.
- To consider and approve, a final cash dividend @ 7.5% i.e. Rs 0.75 per ordinary share of Rs 10 each for the year ended 31 December 2020, as recommended by the Directors of the Company.
- To appoint the Auditors of the Company for the year ending 31 December 2021 and to fix their remuneration.

By Order of the Board
Faisal Abid
Company Secretary

25 March 2021
Karachi

Notes:

- The Share Transfer books of the Company will be closed from Wednesday, 14 April 2021 to Wednesday, 21 April 2021 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of Company's Share Registrar, Farnco Associates (Pvt) Ltd, 8-F, next to Hotel Faran, Nursery, Block-6, P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi, by the close of business on 13 April 2021, will be treated in time for the purpose of attending the Annual General Meeting (AGM) and entitlement of dividend.
- Corona virus related contingency planning for AGM.** Pursuant to SECP Circular No. 6 of 2021 dated 03rd March 2021, to ensure safety and well-being of the shareholders and due to practical difficulties in maintaining social distancing in public gatherings, the 23rd AGM of the Company will be held through video-link. For this purpose, shareholders are requested to register themselves by providing the following information through email at companysecretary@lottechem.pk at least 48 hours before the time of AGM.

Name of Shareholder as	CNIC Number	Folio Number / CDC Account No.	Cell/Phone Number	Email Address
------------------------	-------------	--------------------------------	-------------------	---------------

- Members who are registered, after necessary verification as per the above requirement, will be provided a video-link by the Company via email.
- The login facility will remain open from 10.30 a.m till the end of AGM.
- Members can also share their comments and suggestions on the agenda by email at companysecretary@lottechem.pk.
- A member of the Company entitled to attend and vote may appoint another member as his / her proxy to attend and vote instead of him / her. Proxies in order to be effective must be received at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the time of the holding of the Meeting. In calculating the aforesaid period, no account shall be taken of any day that is not a working day. Proxy Form may also be downloaded from the Company's website: www.lottechem.pk.
CDC Account Holders will have to follow further undermentioned guidelines as laid down in Circular 1 dated 26 January 2020 issued by the Securities and Exchange Commission of Pakistan.

For Attending the Meeting:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulation, shall authenticate his / her identity by showing his / her original valid Computerised National Identity Card (CNIC) or original passport at the time of attending the Meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution / power of attorney with signature of the nominee shall be produced (unless it has been provided earlier) at the time of the Meeting.

For Appointing Proxies:

- In case of individuals, the account holder or sub-account holder and / or the person whose securities are in group account and their registration details are uploaded as per the Regulations, shall submit the proxy form as per the above requirement.
- The proxy form shall be witnessed by two persons whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the form.
- Attested copies of valid CNIC or the passport of the beneficial owners and the proxy shall be furnished with the proxy form.
- The proxy shall produce his / her original valid CNIC or original passport at the time of the meeting.
- In case of corporate entity, the Board of Directors resolution / power of attorney with specimen signature shall be submitted (unless it has been provided earlier) along with proxy to the Company.

Payment of Cash Dividend through electronic mode. In accordance with the provisions of Section 242 of the Companies Act, 2017 and Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017, it is mandatory for a listed company to pay cash dividend to its shareholder only through electronic mode directly into the bank account designated by the entitled shareholder. Accordingly, shareholders are requested to fill in "Electronic Credit Bank Mandate Form" available on Company's website and send it duly signed along with a copy of valid CNIC/NTN to their respective CDC participant / CDC investor account services (in case of shareholding in Book Entry Form) or to the Company's Share Registrar M/s. Farnco Associates (Pvt) Ltd (in case of shareholding in Physical Form).

In case of non-receipt of valid CNIC/NTN and complete and valid details of designated bank account of entitled shareholder, the Company will be constrained to withhold payment of dividend under the Companies (Distribution of Dividend) Regulations, 2017.

Zakat Declaration (Z-50). Zakat will be deducted from the dividend at source under the Zakat & Ushr Laws and will be deposited within the prescribed period with the relevant authority. To claim exemption, shareholders are requested to submit notarized copy of Zakat Declarations on duly filled in Z-50 Form to their respective brokers or CDC Pakistan Limited (in case the shares are held in CDS-Sub Account or CDC Investor Account) or to Company's Share Registrar, M/s. Farnco Associates (Pvt) Ltd.

Withholding Tax on Dividend. Pursuant to the Finance Act, 2020, effective July 01, 2020, the rates of deduction of income tax under Section 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 from payment of dividend have been revised as 15% for persons appearing on Active Taxpayer List (ATL) and 30% for persons not appearing on active tax payer list.

To enable the Company to make tax deduction on the amount of cash dividend @ 15% instead of 30% all the shareholders whose names are not appearing in the Active Taxpayer List (ATL) provided on the website of the Federal Board of Revenue (FBR), despite the fact that they are, are advised to make sure that their names are appearing on ATL, otherwise tax on their cash dividend will be deducted @ 30% instead of 15%. Further, according to clarification received from FBR, withholding tax will be determined separately on 'Active/Non-active' status of Principal Shareholder as well as Joint-holder(s) based on their shareholding proportions in case of joint accounts. In this regard all shareholders who hold shares jointly are requested to provide shareholding proportions of Principal shareholder and Joint-holder(s) in respect of shares held by them to Company's Share Registrar latest by 13 April 2021, in writing as follows.

Folio/CDC Account No.	Total Shares	Principal Shareholder		Joint Shareholder	
		Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)	Name and CNIC No.	Shareholding Proportion (No. of Shares)

Shareholders are advised to ensure that they have provided their CNIC/NTN to their respective Participant/CDC Investor Account Services (if shareholding in Book Entry Form) or Company Share Registrar (if shareholding in Physical Form) for checking the tax status as per the ATL issued by FBR from time to time.

As per FBR Circulars C. No.1 (29) WHT/2006 dated 30 June 2010 and C. No.1 (43) DG (WHT)/2008-Vol. II -66417-R dated 12 May 2015, the valid exemption certificate is mandatory to claim exemption (i) withholding tax U/S 150 of the Income Tax Ordinance, 2001 (tax on dividend amount) where the statutory exemption under clause 47B of part -IV of Second Schedule is available. The shareholders who fall in the category mentioned in above clause and want to avail exemption U/S 150 of the Ordinance, must provide valid Tax Exemption Certificate to our Share Registrar M/s. Farnco Associates (Pvt) Ltd before book closure otherwise tax will be deducted on dividend as per applicable rates.

- Transmission of Annual Financial Statements through email.** Pursuant to notification vide SRC. 787(I)/2014 dated 8 September 2014, the SECP has allowed the circulation of Audited Financial Statements and notice of AGM to the shareholders via email. Members who wish to avail this facility can communicate their email addresses to the Company Secretary and/or Share Registrar on the Standard Request form available on the Company's website.
- Video Conference Facility.** If the Company receives consent from the members collectively holding at least 10% shareholding residing in a city, to participate in the meeting through video-link at least 7 days prior to date of the meeting, the Company shall arrange facility of video-link in the city subject to availability of such facility in that city. In this regard, members are requested to submit duly filled in "Video Conference Facility Consent Form" available on Company's website to the registered address of the Company.
- Deposit of physical shares into CDC account.** As per section 72 of the Companies Act, 2017, every listed company is required to replace its physical shares with book-entry form. Therefore, the shareholders having physical shares are requested to convert the shares into book entry.
- Audited accounts of the Company for the year ended 31 December 2020 have been provided on the Company's website.
- Unclaimed/Unpaid Dividend and Share Certificates.** As per the provisions of Section 244 of the Companies Act, 2017, any shares issued or dividend declared by the Company which have remained unclaimed/unpaid for a period of three years from the date on which it was due and payable, are required to be deposited with SEC for the credit of Federal Government after issuance of notices to the shareholders to file their claim. Shareholders are requested to ensure that their claims for unclaimed dividend and shares are lodged promptly. In case, no claim is lodged, the Company shall proceed to deposit the unclaimed/unpaid amount and shares with the Federal Government pursuant to the provision of Section 244(2) of Companies Act, 2017.